



سوال

نماز کے بعد کپڑوں میں نجاست کی موجودگی

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک آدمی نے نماز پڑھی اور کافی مدت بعد معلوم ہوا کہ اس کے کپڑے ناپاک تھے تو کیا وہ نماز کو دوہرائے جب کہ اس نے ان کپڑوں میں پانچ ماہ پہلے نماز پڑھی تھی؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیح السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر نجاست کا علم نماز سے فراغت کے بعد نماز صحیح ہے کیونکہ جبریل علیہ السلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران نماز یہ بتایا کہ آپ کے نعلین (جوتے) کو نجاست لگی ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتار دیا اور نماز کے ابتدائی حصے کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ چکے تھے نہ دوہرایا۔ اسی طرح اگر نجاست کے بارے میں نماز سے پہلے معلوم ہو لیکن پھر بھول کر انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لے اور اسے نماز کے بعد یاد آئے کہ یہ کپڑے ناپاک تھے تو پھر بھی نماز صحیح ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ میں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ نَهَوْنَا ... سورة البقرة ۲۸۶

"اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مؤاخذہ نہ کرنا!"

اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا ہے۔

حدامعتمدی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 1 ص 270



محدث فتویٰ